



کرونا وائرس کی وباء کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 27 جولائی سے لائی جانے والی تبدیلیاں اور سینئر آئی ڈی کارڈز کی درخواست کا نیا آن لائن طریقہ کار

برامپٹن، آن (21 جولائی 2020) – سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بس سروس میں بروز پیر، 27 جولائی سے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں لائی جائیں گی۔

سروس میں تبدیلیاں

برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس 27 جولائی سے شروع کرتے ہوئے فعال ہوں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل فراہم کر سکے۔

- 501 زوم کوئین
- 502 زوم مین
- 511/511A زوم سٹیلز
- 1/1A کوئین
- 2 مین
- 3 مک لافنلن
- 4/4A چنگواکوسی
- 5/5A بوویرد
- 6 جیمز پوٹر
- 7/7A کینیڈی
- 8 سنٹر
- 9 ووڈین
- 10 ساؤتھ انڈسٹریل
- 11/11A سٹیلز
- 14/14A ٹوربریم
- 15 برامیلا
- 18 ڈگزی
- 20A ایسٹ انڈسٹریل
- 23 سینڈل ووڈ
- 26 ماؤنٹ پلیزنٹ
- 29 ولیمز پارک وے
- 30 ایئرپورٹ روڈ
- 31 مک وین
- 35 کلارک وے
- 50 گور روڈ
- 51 بیئر فورڈ
- 52 میک مرچی
- 53 رے سن
- 56 کنگ نول
- 57 شیرولیس
- 60 مسیساگا



• 115 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس

موجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

براہ کرم یاد رکھیں کہ برامپٹن، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 ہوں گے۔ ٹرنتی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں

سینئر آئی ڈی کارڈز کے لیے درخواست دینے کا نیا آن لائن طریقہ کار

بزرگ افراد اب برامپٹن ٹرانزٹ کے نئے سینئر آئی ڈی کارڈ کے لیے آن لائن طریقے سے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دہندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ www.bramptontransit.com پر موجود آن لائن فارم مکمل کریں اور کارڈ پر لگانے کے لیے اپنی عمر کا ثبوت، برامپٹن کا رہائشی ہونے کا ثبوت اور تصویر بھی ضرور منسلک کریں۔ اس کے بعد کارڈ درخواست دہندہ کو بذریعہ ڈاک بھیج دیا جائے گا۔

تمام فعال سینئر آئی ڈی کارڈز کی مدت اختتام کو غیر معینہ عرصے تک ختم کر دیا گیا ہے۔ بزرگ افراد تاحکم ثانی اپنے منسوخ شدہ کارڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر بزرگ افراد سے اپنا برامپٹن ٹرانزٹ سینئر آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہو اور انہیں متبادل کارڈ چاہیے ہو، تو وہ مزید ہدایات اور متبادل کارڈ بنوانے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے لیے سینئر کارڈ پروگرام کے ساتھ 905-874-2750 ایکسٹینشن 16253 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔ سواریوں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپیسمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔



BRAMPTON

Service and Information Update

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca